

13722 - قسطوں اور نقد میں علیحدہ قیمت مقرر کرنی

سوال

کیا خریدار اگر نقد خریدنا چاہے تو اس کی اور قیمت اور اگر قسطوں میں خریدنا چاہے تو اس کی اور قیمت مقرر کی جاسکتی ہے؟ مثلاً: یہ گاڑی نقد میں پچاس ہزار اور قسطوں میں ساٹھ ہزار کی ہے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جب بائع یہ کہے کہ: یہ گاڑی نقد پچاس ہزار اور قسطوں میں ساٹھ ہزار کی ہے، تو اس مسئلہ کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت:

بائع اور مشتری گاڑی کی قیمت اور ادائیگی کا طریقہ طے کرنے کے بعد جدا ہوں جائیں، تو یہ بیع جائز ہے۔

دوسری صورت:

قیمت پر متفق ہوئے بغیر ہی جدا ہو جائیں، تو یہ بیع حرام ہو گی اور صحیح نہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ "شرح السنۃ" میں اس دوسری صورت کے متعلق کہتے ہیں:

اکثر اہل علم کے ہاں یہ فاسد ہے اس لیے کہ اس میں کوئی علم نہیں کہ دونوں میں سے کس بنیاد پر قیمت رکھی گئی ہے۔ اھ۔

اور بہت سے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیع میں دو بیع کی نہی کی یہی تفسیر اور شرح کی ہے۔

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دو سودے کرنے سے منع کیا ہے۔

جامع ترمذی حدیث نمبر (1152) علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح ترمذی (985) میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

اہل علم کا عمل اسی پر ہے، اور بعض اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ: ایک بیع میں دو بیع یہ ہے کہ کوئی یہ کہے: میں نے یہ کپڑا نقد میں آپ کو دس اور ادھار بیس میں فروخت کیا، اور دونوں میں سے ایک بیع پر جدا ہو، لہذا جب وہ دونوں میں سے ایک پر جدا ہو اور کسی ایک پر سودا بھی طے ہو چکا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اھ

اور امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ سنن نسائی میں کہتے ہیں:

ایک بیع میں دو بیع یہ ہے کہ: فروخت کرنے والا یہ کہے میں نے یہ سامان آپ کو نقد سو درہم میں اور ادھار دو سو درہم میں فروخت کیا .

اور اما شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ نیل الاوطار میں کہتے ہیں:

ایک بیع میں دو بیع کی حرمت کی علت یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو دو قیمتوں میں فروخت کرنے کی صورت میں قیمت کا عدم استقرار ہے۔ اھ.

مستقل فتویٰ کمیٹی سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

ایک گاڑی نقد دس ہزار اور قسطوں میں بارہ ہزار میں فروخت کرنے کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟

کمیٹی کا جواب تھا:

جب کوئی شخص کسی دوسرے کو گاڑی نقد دس ہزار اور ادھار بارہ ہزار میں فروخت کرے اور مجلس سے بغیر کسی سودے پر متفق ہوئے بغیر ہی اٹھ جائیں یعنی نقد یا ادھار کی قیمت پر متفق ہوئے بغیر ہی، تو یہ بیع جائز نہیں اور جہالت کی بنا پر کہ آیا نقد بیع ہوئی یا ادھار اس کا کوئی علم نہ ہونے کی بنا پر یہ بیع صحیح نہیں ہوگی.

اس پر بہت سے علماء کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیع میں دو بیع کی نہی والی حدیث سے استدلال کیا ہے، جسے امام احمد اور نسائی ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے، اور اگر خریدنے اور فروخت کرنے والا مجلس سے اٹھ کر جدا ہونے سے قبل نقد یا ادھار میں سے کسی ایک پر متفق ہو جائیں اور پھر جدا ہوں تو قیمت اور اس کی حالت کی علم کی بنا پر صحیح اور جائز ہے۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (13 / 192) .

اور ایک دوسرے سوال میں ہے کہ:

جب فروخت کرنے والا یہ کہے کہ: یہ سامان ادھار دس ریال میں اور نقد پانچ ریال میں ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟
 کمیٹی کا جواب تھا:

جب واقعتاً ایسا ہی جیسا سوال میں مذکور ہے تو بیع جائز نہیں، اس لیے یہ ایک بیع میں دو بیع کی صورت بنتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بیع میں دو بیع کی نہی ثابت ہے، کیونکہ اس میں ایسی جہالت ہے جو اختلاف اور جھگڑے کا باعث بنے گی۔ اھ

دیکھیں: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء (13 / 197) .

اور فقہ اکیڈمی کی قرار ہے کہ:

جس طرح نقد اور معلوم مدت کی قسطوں والی بیع کی قیمت میں زیادتی جائز ہے اسی طرح موجودہ اور ادھار کی قیمت میں بھی زیادتی جائز ہے، اور بیع اس وقت جائز نہ ہوگی جب تک دونوں فریق نقد یا ادھار کا فیصلہ نہ کر لیں، لہذا اگر بیع نقد اور ادھار کے مابین متردد ہو اور فریقین کا کسی ایک قیمت پر اتفاق نہ ہوا ہو تو یہ بیع شرعاً ناجائز ہوگی۔ اھ

واللہ اعلم .